

110010- بیوی نے خاوند کو کہا: تم مجھ پر قیامت تک حرام ہو

سوال

ایک عورت نے اپنے خاوند پر قسم کھاتے ہوئے کہا: تم مجھ پر قیامت کے دن تک حرام ہو، دین اسلام میں اس کا حکم کیا ہے؟

اور حلف اٹھانے والے دونوں شخص پر حلف کیا فدیہ کیا ہے اور کیا اس کا اس پر محاسبہ کیا جائیگا؟

پسندیدہ جواب

بیوی کا اپنے خاوند کو کہنا کہ: تم

مجھ پر حرام ہو، یا پھر تم مجھ پر قیامت تک حرام ہو، اس سے نہ تو ظہار ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ ظہار اور طلاق تو خاوند کی جانب سے ہوتی ہے، اور پھر یہ حلال کو حرام کرنے کے باب میں شامل ہے، مثلاً کوئی لباس حرام کرنا، یا پھر کوئی کھانا حرام کرنا، تو قسم توڑنے کی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ لازم آئیگا؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ

اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، آپ اپنی بیویوں کی خوشی و رضا چاہتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کا کھونا مقرر کر دیا ہے﴾۔ التحريم (1-2)۔

تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کو

حرام کرنا قسم قرار دیا ہے۔

اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ: ایک غلام

آزاد کیا جائے، یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں لباس مہیا کیا جائے، اور جو اسے نہ پائے تو وہ تین یوم کے روزے رکھے۔

اور جب بیوی سے خاوند نے جماع کر لیا

اور بیوی اس پر راضی تھی تو قسم ٹوٹ گئی۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے دریافت کیا
گیا:

اگر بیوی اپنے خاوند سے کئے: اگر میں
نے ایسا کیا تو تم مجھ پر والد کی طرح حرام ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

”عورت کا اپنے خاوند کو حرام کرنا
یا اس کو اپنے کسی محرم مرد سے مشابہت دینا قسم کے حکم میں آتا ہے، اور اس کا حکم
ظہار والا نہیں؛ کیونکہ ظہار تو خاوند کی جانب سے اپنی بیویوں کے لیے ہوتا ہے اور
اس کی دلیل نص قرآنی ہے۔

عورت پر قسم کا کفارہ لازم آتا ہے،
جو کہ دس مسکینوں کا کھانا ہے، ہر مسکین کو علاقے کی خوراک کا نصف صاع دیا جائیگا،
جس کی مقدار تقریباً ڈیڑھ کلو بنتی ہے، اور اگر انہیں دوپریارات کا کھانا کھلا دے
یا پھر انہیں وہ لباس مہیا کر دے جس میں نماز ہو جاتی ہو تو یہ کافی ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان
ہے:

﴿اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو
قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو
مضبوط کر دو، اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر
والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو لبا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس
کو اس کی قدرت نہ ہو تو تین روزے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا
لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو! اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان
کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو﴾۔ المائدہ (89)۔

عورت کا اس چیز کو حرام کرنا جسے اللہ
نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کا حکم قسم کا حکم ہے، اور اسی طرح مرد کا ایسی چیز
حرام کرنا جسے اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے سوائے بیوی کے یہ قسم کے حکم میں ہے؛
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

۔ (اے نبی آپ اس چیز کو حرام کو کرتے
ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے
ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
تمہاری قسموں کا کھونا فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہی علم
والاحکمت والا ہے)۔ التحريم (1-2)۔ انتہی

دیکھیں: فتاویٰ اسلامیہ (3-1/3)

۔

بیوی کو اللہ کے اپنے اس قول سے توبہ
کرنی چاہیے کیونکہ حلال چیز کو حرام کرنا جائز نہیں ہے۔

واللہ اعلم۔